

سید فضل الرحمن

قاموس الحدیث

﴿۶﴾

- جَائِحَةٌ: مصیبت۔ آفت۔ حادثہ۔ جمع جَوَائِحُ۔
 جَائِزٌ: ظالم۔ من مانی کرنے والا۔ بے اصول۔ قانون شکن۔
 جَائِزٌ: جائز۔ مباح۔ قابل برداشت۔
 جَائِزَةٌ: انعام۔ عطیہ۔ تحفہ۔
 جَائِشٌ: مشتعل۔ مضطرب۔ بھرا ہوا۔
 جَائِفٌ: شانے سے موٹے سے تک گزرنے والی ایک رگ۔ جمع جَوَائِفٌ۔
 جَائِفَةٌ: اندر تک پہنچنے والی چوٹ۔ بڑا عیب۔ جمع جَوَائِفٌ۔
 جَارٌ: مدد یا پناہ کا طالب ہونا۔ مقصد سے ہٹنا۔ کنارہ کش ہونا۔ غلط فیصلہ کرنا۔ ظلم کرنا۔ ہم سایہ۔ جمع
 جَيْرَانٌ۔ عَلَيكُمْ بِحُسْنِ الْجَوَارِ۔ ہم سائے کے ساتھ حسن سلوک لازم کرو۔
 جَارٌ: گیس۔ مٹی کا تیل۔
 جَاسُوا: وہ گھس آئے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ سو وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑے۔
 جَامِعٌ: سرکش۔ ضدی۔ بے لگام۔ بے مہار۔ من چلا۔ جمع جَمَائِعٌ۔
 جَامِدٌ: خشک۔ جما ہوا۔ بے جان۔ بے حس و حرکت۔ جمع جَوَامِدٌ۔
 جَامِعٌ: اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ اہم کام جس کی وجہ سے لوگ جمع ہوں۔ وَإِذَا كَانُوا
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ اور جب وہ کسی ایسے معاملے میں

جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب

تک وہ اس سے اجازت نہ لے لیں وہ کہیں نہیں جاتے۔

الْحَامِلُ: اونٹوں کا گلہ۔ رِیوُزُ۔ رَجُلٌ حَامِلٌ۔ اونٹوں والا۔

جَامُورٌ: بھجور کے درخت کا گوند یا اندر کا گودا۔

جَامُوسٌ: بھیس۔ جَمْعُ جَوَامِيسٍ۔

جَانِبٌ: پہلو۔ سمت۔ گوشہ۔ گھر کا صحن۔ محلے کا چوک۔ جَمْعُ جَوَانِبٍ۔ اِنْ جَانِبٌ اَعْيَاكَ

فَالْحَقُّ بِجَانِبٍ۔ اگر کام کی کسی ایک جہت سے ناامید ہو جاؤ تو دوسری جہت میں

مصروف عمل ہو جاؤ۔

جَانِبِيٌّ: مجرم۔ گناہ گار۔ خطا کار۔ پھل توڑنے والا۔ جمع کرنے والا۔ جَمْعُ جُنَاةٍ۔

جَاهٌ: مرتبہ۔ مقام۔

جَاهِلٌ: نادان۔ ناواقف۔ بے علم۔ بے وقوف۔ جَمْعُ جُهَالٍ۔

جَاهِلِيَّةٌ: جہالت۔ گم راہی۔ وَقُرْنٌ لِيْ بِيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ۔

اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی

پھرو۔

جِنَاءٌ: بہت آنے والا۔

جَبْكًا: مضبوط کرنا۔ عمدہ بننا۔ موزہ بننا۔ رسی کو خوب بننا۔

جَحْفَةٌ: چمڑے کی ڈھال جس میں لکڑی اور تانت نہ ہو۔ جَمْعُ حَجْفٍ۔

جَذْبٌ: کاٹنا۔ پھاڑنا۔ چیرنا۔ چٹان میں سوراخ کرنا۔ وَتَمُوذُ الدِّينِ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

اور شمود جو وادی میں پتھر تراشا کرتے تھے۔ جَابَ الْعَبْرُ الْبِلَادَ۔ خبر کا پھیلنا۔

جُلٌّ: بڑا۔ اکثر۔

جِلٌّ: بڑا بزرگ۔ مَالَهُ دِقٌّ وَلَا جِلٌّ۔ اس کے پاس کوئی چیز نہیں، نہ چھوٹی، نہ بڑی۔ اَخَذْتُ

جِلَّةً اَمَوَ الْهَمْرِ۔ میں نے ان کے بڑے بکرے اور اونٹ لے لیے۔

جُلَّةٌ: بھجور کی ڈلیا۔ ٹوکری۔

جُلْبَةٌ: زخم کا کھرٹ۔ بادل کا ٹکڑا۔ بکھری ہوئی گھاس۔ جَمْعُ جُلْبٍ۔

جُلُّجُلٌ: گھونگرو۔ چھوٹی گھنٹی۔ پھرتیلا لڑکا۔ چست لڑکا۔ جمع جَلَلَجُلٌ۔

جُلُّجَلَانٌ: تل جو کھیت سے توڑا نہ گیا ہو۔ ہر ادھنیا۔

جُلُّحٌ: بغیر سینگ کی گائیں۔ بغیر سینگ کی بکریاں۔ واحد جَلْحَاءٌ۔ لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا

جَلْحَاءٌ۔ ان میں کوئی پیچیدہ سینگوں والی اور بغیر سینگ کی نہ ہوگی۔ حَتَّى يَفْتَصَّ لِلشَّاةِ

الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ۔ یہاں تک کہ بن سینگ والی کا قصاص سینگ والی سے لیا جائے گا۔

جُلُّحٌ: بغیر سینگ کی گائیں۔ بغیر سینگ کی بکریاں۔

جِلْدٌ: کھال۔ چمڑا۔ جلد۔ جمع أَجْلَادٌ وَ جُلُودٌ۔

جِلْدٌ: اندھا چوہا۔

جِلْدَاءٌ: سخت اور ٹھوس زمین۔

جِلْسٌ: ہم مجلس۔

جِلْسَةٌ: بیٹھنے کی بیعت۔

جِلْظَاءٌ: سخت زمین۔

جِلْفٌ: سخت مزاج۔ روکھا۔ بے وقوف۔ خالی مٹکا۔ فَجَاءَهُ وَ جِلٌّ جِلْفٌ۔ ایک بیوقوف شخص

آپ کے پاس آیا۔

جِلْفَاطٌ: کشتی ساز۔ کشتی بنانے والا۔ کشتی کی درزیں بند کرنے والا۔

جِلْمَاقٌ: وہ ٹٹھہ جس کی تانت بنائی جاتی ہے۔

جِلْمَدٌ: مضبوط آدمی۔

جِلْمُودٌ: بڑا پتھر۔ چٹان۔ مضبوط آدمی۔ مویٹیوں کا بہت بڑا ٹٹھہ۔ جمع جَلَامِدٌ۔

جِلْوَاؤٌ: سیاہی۔ سیاہی۔

جِلْوَةٌ: کھول دینا۔ صاف صاف بیان کرنا۔ وضاحت کرنا۔ دولہن کا سنگار۔ آرائی۔ منہ دکھائی۔

جِلْوَدٌ: سخت اور تند خو۔

جِلْوَسٌ: بیٹھنا۔ مل کر بیٹھنے والے۔

جِلْهًا: سخت کام سے روکنا۔ کھولنا۔ پگڑی کو پیشانی سے اوپر کرنا۔

جِلْهَقٌ: مٹی کا چکنا گولا۔ غلہ۔

جُلْهُمَّ: موٹی چوہیا۔

جَمَاءُ: لوہے کا خود۔ بے سینگ بکری۔ بڑی تعداد۔ اِنَّ اللّٰهَ لَيَدْبِيْنُ الْجَمَاءَ۔ اور بے سینگ بکری کو (سینگ والی سے) بدلہ دلائے گا۔

جَمَاءُ: مدینے سے تین میل پر ایک مقام کا نام۔

جِمَاحٌ: سرکشی۔ خود سری۔ خواہش نفس۔

جَمَارٌ: جماعت۔ گروہ۔

جَمَارٌ: کودنے اور تیز چلنے والا جانور۔

جَمَارَةٌ: رکشے کی مانند ایک گاڑی۔

جُمَارَةٌ: تک آستینوں والا جبہ۔ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فُضَّاقًا عَنْ يَدَيْهِ

كَمَا جُمَارَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو جے کی آستین جو آپ

پہنے ہوئے تھے تک ہوئیں۔ (اوپر نہ چڑھ سکیں)

جُمَابِيَّةٌ: سردرات، جس میں پانی جم جائے۔

جَمَاشٌ: عورتوں کو چھیڑنے والا۔

جَمَاعَةٌ: جماعت۔ گروہ۔ لوگوں کے گروپ۔ درختوں کا جھنڈ۔

جَمَالٌ: حسن۔ خوب صورتی۔ خوش اخلاقی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَالنَّحْمَلَ۔ اللہ تعالیٰ

خوب صورتی اور خوب صورت بننے کو پسند کرتا ہے۔

الْجُمَالُ: انتہائی حسین۔

جَمَالٌ: شتر بان۔ ساربان۔ اونٹ کا مالک۔

الْجُمَامُ: لبالب بھر ہوا برتن۔

جُمَانٌ: موٹی۔ چاندی کے بنے ہوئے موٹی۔

جُمَانِيٌّ: لمبی زلفوں والا۔ بہت بالوں والا۔

جُمْمَةٌ: پیشانی کے گھنے بال۔ موٹھوں تک لٹکی ہوئی زلفیں۔ پانی کی بڑی مقدار۔

جُمُجْمَةٌ: لکڑی کا پیالہ۔ کھوپڑی۔ جمع جَمَاجِمُرٌ۔ يَجْعَلُونَ الْجَمَاجِمُرَ فِي الْحَرِّ۔ وہ

بل کی لکڑیوں سے کھیتی کرتے ہیں۔

جُمُذٌ: سخت اور اونچی زمین۔ جمع جَمَاذُو أَجْمَاذٌ۔

جَمْرٌ: انگارے۔ نکریاں۔ یہ جمع ہے۔ واحد جَمْرَةٌ۔ إِنَّ آدَمَ رَمَى بِحِجْرِ يَمِينِي فَأَجْمَرَ ابْنِي سُبَّانَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے مٹی میں نکریاں ماریں تو شیطان ان کے سامنے سے بھاگا۔

جَمْرَةٌ: نکری۔ انگارا۔ جمع جَمْرَاتٌ۔

جَمْرٌ: کھجور کے درخت کی پتی ہوئی شاخیں۔ جمع أَجْمَازٌ۔

جَمْرٌ: دوڑنا۔ تیزی سے چلنا، جو دوڑنے کے قریب ہو۔ اچھلتا کودنا۔ مذاق کرنا۔ فَلَمَّا أَذْلَقْتَهُ الْحَبَابَةَ جَمَرَ۔ جب اس نے پتروں کی تکلیف اٹھائی تو بھاگا۔

جَمْرَةٌ: کھجور کا ڈھیر۔ بڑی مقدار۔ جمع جَمْرٌ۔

جَمْسٌ: گھن کا جم جانا۔ إِنَّ كَانِ جَمِيسًا۔ اگر گھی بھابھو۔

جَمْسَةٌ: گدر کجور۔ جو کجور پوری طرح پکی نہ ہو۔ ٹھک کجور۔

جَمْسٌ: گھاس کاٹنا۔ پست آواز۔ خر موٹنا۔ انگلیوں کے سروں سے تھن دبا کر دوہنا۔ عورتوں سے دل لگی کرنا۔

جَمْعٌ: جمع۔ ہجوم۔ جماعت۔ گروہ۔ يَوْمَ الْجَمْعِ۔ قیامت کا دن۔

جَمْعٌ: جمع کرنا۔ جوڑنا۔ ملانا۔ محبت کرنا۔ پختہ ارادہ کرنا۔ میزان لگانا۔ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ۔ بے شک (کافروں نے) تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع

کیا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ كَانِ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ۔ آپ جامع کلمے ارشاد فرمایا

کرتے تھے۔ الْجَمْرُ جَمَاعُ الْإِنْمِ۔ شراب گناہوں کا ٹھکانا ہے۔

الْجُمُعَةُ: جمعے کا دن۔ کل۔ جموعہ۔ مختلف قبائل کے بے جملے لوگ۔ حَمِيرٌ يَوْمَ طَلَعَتْ فِيهِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمُ وَأَذْخِلَ فِي الْجَنَّةِ وَأَخْرَجَ۔ سب دنوں سے بہتر دن، جن

میں سورج نکلتا ہے، جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت

میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔

الْجُمْلُ: موٹی رسی۔ گروہ۔ جماعت۔ كَيْفَ أَنْفَرْنَا إِذَا قَعَدَ الْجَمَلَاءُ عَلَى الْمَنَابِرِ

يَقْضُونَ بِالْهَوَى وَيَقْتُلُونَ بِالْمَنْطَبِ۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب موٹے لوگ منبروں پر

بیٹہ کراپی خواہش کے مطابق فیصلے کریں گے اور غصے سے لوگوں کو قتل کریں گے۔

الْجَمَلُ: اونٹ۔

جَمَلٌ: خوب صورت بنانا۔ عمدہ بنانا۔

جَمَلًا: اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ چربی کو پگھلانا۔ خوب صورت ہونا۔ خوش اخلاق ہونا۔ بات کو مختصر

کرنا۔ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاغُوهَا وَآكَلُوهَا

أَثْمَانَهَا۔ یہود پر اللہ کی لعنت ہو کہ جب ان پر چربی حرام کی گئی تو انھوں نے چربی کو پگھلایا

اور بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ جَمَلُ الْبَحْرِ: ڈبیل پھیل۔

جَمَلُ الْيَهُودِ: گرگٹ۔

جَمَمٌ: پودوں کا بہ کثرت ہونا۔ بالوں کا لمبا ہونا۔ بالوں کا بہ کثرت ہونا۔ لَعَنَ اللَّهُ

الْمُجَمِّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح پٹے

رکھیں یعنی بالوں کو لمبا نہ ہونے دیں۔ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَمَّ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ جمع ہو کر اس کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا

ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔

جُمُوحٌ: (گھوڑے کا) سرکش ہونا۔ قابو میں نہ آنا۔ آدمی کا خود سر ہونا۔ کسی کی بات نہ ماننا۔ تیز

بھاگنا۔ ایک طرف جھک جانا۔ جَمَحَتِ السَّفِينَةُ: کشتی (ملاح کے) قابو سے باہر ہو گئی۔

جُمُودٌ: جم جانا۔ خشک ہونا۔ دودھ ختم ہو جانا۔ خشک سالی ہونا۔ بخیل ہونا۔ جما ہوا پانی۔

جُمُيزٌ: گولر کا درخت۔ گولر کا پھل۔ واحد جُمُيزَةٌ۔

الْجَمُومُ: بڑی مقدار والی شے۔ بَنُو جَمُومٍ: بہت پانی والا کنواں۔

جَمَهْرَةٌ: جمع کرنا۔ مجموعہ۔ کل۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔

جَمَهُورٌ: ہر چیز کا بڑا حصہ۔ ریت کا ٹیلہ۔ حوام۔ اکثر لوگ۔ بڑی جماعت۔ ہجوم۔ مجمع۔ جمع

جَمَاهِيرٌ۔

جَمَهُورِيٌّ: عوامی۔ پبلک کا۔ عام لوگوں کا۔ نشہ۔ شراب۔ حَكْمُ الْجَمَهُورِيِّ: جمہوری

حکومت، عوامی حکومت۔

جَمِيرٌ: لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ گوند سے ہوئے بال۔ تاریکی۔

جَمِیرَةٌ: چوٹی (بالوں کی)۔ بالوں کو اکٹھا کر کے گردن کے پیچھے باندھنا۔ بالوں کی لٹ۔ کچھا۔ جمع جَمَائِرُ۔

جَمِیمٌ: بہت زیادہ۔ گھنا۔ گنجان۔ کثیر۔

جَنٌّ: ایک مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی۔

جَنٌّ: چھپنا۔ تاریک ہونا۔ ڈھانپنا۔ چھپانا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا۔ پھر جب اس (ابراہیم) پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا۔

جَنٌّ: پاگل ہونا۔ عقل زائل ہونا۔ دیوانہ ہو جانا۔ انتہائی حیرت زدہ ہونا۔

جَنَاءٌ: جھکا ہوا ہونا۔ جھکتا۔ کبڑا ہونا۔

جَنَابٌ: گوشہ۔ حصہ۔ گھر کا گمن۔ محلہ۔ حفاظت۔ مَرُؤًا يَسِيرُونَ بِجَانِبِيهِ۔ وہ اس کے دونوں

حصوں سے گزرے۔ اَنَا فِي جَنَابِ فَلَانٍ۔ میں فلاں کی حفاظت میں ہوں۔

جَنَابٌ: پہلو کا درد۔ پہلو کا پھوڑا۔ نمونیا۔

جَنَابَةٌ: نجس ہونا۔ حالت جنابت میں ہونا۔

جَنَاحٌ: بازو۔ پہلو۔ شانہ۔ بغل۔ عمارت کا حصہ۔ أَوْلَىٰ أَجْنَحَةَ مَشَىٰ وَفَلَتْ وَرُبَاعٌ۔ دو دو

اور تین تین اور چار چار پروں والے۔ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔

اور ان کے آگے مہربانی سے جھکے رہنا۔

جُنَادِيٌّ: وہ کپڑا جو دیوار پر لگایا جائے۔ غالیچے کی ایک قسم۔ سَعَرْنَا الْبَيْتَ بِجُنَادِيٍّ أَخْضَرَ

فَدَخَلَ أَبُو أَيُّوبَ فَلَمَّا رَأَاهُ خَرَجَ اِنْتِكَازًا لَهُ۔ ہم نے گھر پر سبز اونی کپڑا چڑھا کر مارا

تھا۔ ابو ایوب انصاری وہاں آئے تو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے اس کو برا جانا۔

جِنَازَةٌ: جنازہ۔ مردہ۔ مردے کا تابوت یا چار پائی۔ اعمدہ تاک ہات۔ جمع جِنَائِرُ۔

جِنَابِيَّةٌ: جرم کرنا۔ گناہ کرنا۔ لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ۔ ہر جرم کا مواخذہ جرم کرنے والے

ہی سے ہوگا۔

جِنَابِيَّةٌ: بھل توڑنا۔

جَنَّبٌ: دکھیلنا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔ دور کرنا۔ بچانا۔ اَلْكَ رَكْنًا۔ وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ

اَلْاَصْنَامَ۔ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے دور رکھ کر ہم بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔

جَنِبًا: دور ہونا۔ الگ ہونا۔ پہلو کی طرف جھکنا۔ لنگڑا کر چلنا۔ بے چین ہونا۔

جَنِبٌ: پست قامت۔ چھوٹے قد والا۔

جَنِبٌ: پہلو کے درد میں مبتلا ہونا۔ نمونیا میں مبتلا ہونا۔ جنوبی ہوا لگنا۔ جَنِبُ الْقَوْمِ أَوِ النَّزْعِ: لوگوں یا کھیتی کو جنوبی ہوا لگی۔

جُنُبٌ: دور۔ رفیق سفر۔ پڑوس میں قیام کرنے والا۔ سرکش۔ نافرمان۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر وہ اس کو دور ہی سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اجنبی پڑوسی اور ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ۔

جَنِبَةٌ: کسی چیز کا کنارہ۔ گوشہ۔ پرہیز۔ علیحدگی۔ عَلَيْكُمْ بِالْجَنبَةِ فَإِنَّهَا عَفَافٌ۔ عورتوں سے الگ رہنا اپنے اوپر لازم کر لو (ہر وقت عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھو) اس سے آدمی پاک رہتا ہے (ہدکاری اور گناہوں سے بچا رہتا ہے)۔

جَنَابَةٌ: گنبد۔ قبر۔ فِيهَا جَنَابُ مَن لُّوْا۔ جنت میں موتی کے گنبد ہوں گے۔

جَنَّةٌ: جنت۔ باغ۔ آخرت کی نعمتوں کا گھر۔ جَعَّ جَنَّانٌ۔

جَنَّةٌ: جنون۔ دیوانگی۔ آسب کا اثر۔ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔

جَنَّةٌ: ذمہ دار۔ ذمہ دار کی چیز۔ نقاب۔ حفاظت کا ذریعہ۔ جَعَّ جُنُنٌ۔ الصُّومُ جَنَّةٌ۔ روزہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

جُنْحٌ: کھڑا۔ حصہ۔ تاریکی۔ جھکنا۔ مائل ہونا۔ فرماں بردار ہونا۔ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ۔ رات کی تاریکی شروع ہوگئی۔ إِذَا سَكَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكْفُوا صَيَانَكُمْ۔ جب رات کا کچھ حصہ آجائے تو اپنے بچوں کو روک کر رکھو۔ (باہر نہ پھرنے دو)۔

جَنَدٌ: سخت زمین۔ مٹی جیسا پتھر۔ ٹھیکرا۔ یمن کا ایک شہر۔

جَنَدٌ: فوج۔ لشکر۔ گروہ۔ جَعَّ أَجْنَادٌ وَجُنُودٌ۔

جُنْدُبٌ: ایک قسم کی بڑی جو آواز نکالتی ہے اور اچھلتی ہے۔ جَعَّ جَنَادِبٌ۔ فَجَعَلَ الْجَنَادِ بِ يَقَعْنَ فِيهِ مِثْلُ يَوْمِ نَجْدٍ۔

جَنْدَعُ: آفت۔ بلا۔ مصیبت۔ زمین کے موذی جانور۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ الْجَنَادِعَ۔ مجھے تم پر مصیبتوں کا ڈر ہے۔

جَنْدِیُّ: فوجی۔ سیاہی۔

جَنْزٌ: جمع کرنا۔ ڈھانپنا۔

جَنْسٌ: اصل۔ نوع۔ قسم۔ صنف۔ قوم۔ جمع اَجْنَاسٌ۔

جَنْسِیَّةٌ: قومیت۔ حق شہریت۔

جَنْفٌ: ایک طرف جھک جانا۔ ظلم کرنا۔ کسی کا حق تلف کرنا۔ مَا تَحَافَنَّا الْاِثْمَ۔ ہم نے جان بوجھ کر کسی کا حق نہیں مارا۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنْفًا اَوْ اِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ۔ جس کو مصیبت کرنے والے کی طرف سے نا انصافی کا اندیشہ ہو اور وہ شخص ان میں صلح کر اے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔

جَنْقٌ: تخفیف سے حملہ کرنا۔

جَنْقٌ: تخفیف سے پھینکے جانے والے پتھر۔

جَنْنٌ: پردہ۔ قبر۔ آڑ۔ کفن۔ مردہ۔ جمع اَجْنَانٌ۔ وَلِیْ ذَقْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَاِجْنَانَہٗ عَلَیَّ وَاَلْعَبَاسِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذن اور قبر میں چھپانے کا تمام کام حضرت علی اور حضرت عباس نے کیا۔

جَنْوَةٌ: کبڑا ہونا۔ جھکا ہوا ہونا۔ مینڈھے وغیرہ کے سینگوں کا پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہونا۔ موڑنا۔

مِیْرَہَا کرنا۔ اِنَّ یٰہُوْدِیًّا زَنٰی بِاَمْرَآةٍ فَاَمْرَآةٌ بَرَجِمَہُمَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ یَجْنِیْ عَلَیْہَا۔

ایک یہودی نے ایک عورت سے زنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کرنے کا

حکم دیا۔ (جب پتھر لگنے لگے تو) مرد نے عورت پر جھکنا شروع کر دیا۔ (اس کو پتھروں سے

بچانے کے لیے)۔

جَنْوُبًا: ہوا کا جنوب کی طرف سے چلنا۔ ہوا کا جنوب کی طرف جانا۔

جُنُوْنٌ: دماغی خلل۔ دیوانگی، بے وقوفی۔ جُنُوْنٌ فِیْ اَمْرِ مِّنَ الْاُمُوْرِ۔ کسی ایک کام کی دھن۔

جُنُوْنِیُّ: دیوانہ۔ پاگل۔

جَنْیٌ: درخت سے پھل توڑنا۔

جَبْنِي: تازہ توڑا ہوا پھل۔

جَبْنِيْنٌ: قبر۔ پیٹ کا بچہ۔ پوشیدہ چیز۔ جمع أَجْنَةٌ۔

جَوَاءٌ: کشادہ وادی۔ گھروں کے درمیان کھلی جگہ۔

جَوَابٌ: بہت گھومنے والا۔ سیاح۔

جَوَانِي: بحرین کی ایک بستی جہاں مسجدی نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ ادا کیا گیا۔

جَوَادٌ: سخی۔ فیاض۔ عمدہ نسل کا گھوڑا۔ تیز رفتار گھوڑا۔ جمع أَجْوَادٌ و جِيَادٌ۔ فَسِرْتُ إِلَيْهِ جَوَادًا۔

میں تیز رفتار گھوڑے کی طرح اس کی طرف چلا۔

جَوَادٌ: بہت سخی۔ بہت فیاض۔ اللہ تعالیٰ کا اسم صفت۔

جَوَادٌ: اونگھ۔ نیند۔ پیاس۔

جَوَارٌ: بل چلانے والا۔ انگور یا کھجور کے باغ میں کام کرنے والا۔

جَوَارٌ: ساتھ رہنا۔ پڑوس میں رہنا۔ اعتکاف کرنا۔ مشابہ ہونا۔ قریب ہونا۔ امان۔ عہد۔ مدد۔

جَوَارٌ أَبْنَى بَكْرًا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پناہ۔

جَوَارٌ: بڑھ جانا۔ طے کرنا۔ جائز ہونا۔ نافذ ہونا۔ ممکن ہونا۔ اباحت۔ پاسپورٹ۔ جمع

جَوَارَاتٌ۔

جَوَاسٌ: لوگوں میں گھس کر فساد پھیلانے والا۔

جَوَارِشٌ: یونانی دواؤں کا ایک مرکب جو معجون کی مانند ہوتا ہے۔ جوارش خوش ذائقہ ہوتی ہے اور

معجون بد مزہ۔

جَوَاطٌ: اکڑ کر چلنے والا۔ اکڑ۔ بسیار خور۔

جَوَاطٌ: دل برداشتگی۔ بے صبری۔

جَوَالٌ: بہت گھومنے والا۔ پھیری لگانے والا۔ بہت سفر کرنے والا۔

جَوَالَةٌ: سیاح۔ بہت سفر کرنے والا۔

جَوَالِيْقٌ: ٹوکرا۔ جمع جَوَالِيْقٌ۔

جَوْبَةٌ: بادلوں یا پہاڑوں کے درمیان کا خلا۔ فاصلہ۔ گول بڑا گڑھا۔ گھروں کی درمیان خالی جگہ۔

ذُحَالٌ۔ جمع جُؤَبٌ۔

جَوْتُ: قبر۔ بکری کا اوجھ۔

جَوْنَةٌ: ایک مقام کا نام۔ ایک قبیلے کا نام۔

جَوْحٌ: ہلاک کرنا۔ تباہ کرنا۔ برباد کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ دینا۔ خربوزہ۔ اَعَاذَ كُمْ اللّٰهُ مِنْ جَوْحِ الدّٰهْرِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔

جَوْحٌ: کاٹ دینا۔ پھاڑنا۔ اکھاڑنا۔ زخم پھٹ کر مواد نکلنا۔

جَوْحٌ: سیاہ رنگ کی نفیس ہنات۔ اوننی کپڑا۔ جمع اَجْوَاخُ۔

جَوْحَةٌ: گڑھا۔ اوننی کپڑے کا ٹکڑا۔ پوری آستین کی قمیض۔

جَوْدٌ: سخاوت کرنا۔ فیاضی کرنا۔ موسلا دھار بارش۔ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِّنْ نَّاحِيَةِ الْأَحْدَثِ بِالْجَوْدِ۔ نواحی علاقوں میں سے جو بھی آیا اس نے یہی بیان کیا کہ خوب بارش ہوئی۔ تَرَكْتُ أَهْلَ مَكَّةَ وَقَدْ جَيْدُوا۔ میں نے اہل مکہ کو اس حال میں چھوڑا کہ ان پر موسلا دھار بارش ہوئی تھی۔

جَوْدَةٌ: عمدہ ہونا۔ بہتر ہونا۔ اچھی بات کرنا۔ اچھا کام کرنا۔ تیز رفتار ہونا۔

جَوْدَةٌ: عمدہ ہونا۔ بہتر ہونا۔ اچھی بات کرنا۔ اچھا کام کرنا۔ تیز رفتار ہونا۔

جَوْرٌ: جھک جانا۔ ظلم کرنا۔ عِنْدَهُ مِنَ الْعَمَالِ الْجَوْرُ۔ اس کے پاس غیر معمولی دولت ہے۔

جَوْرُبٌ: موزہ۔ جمع جَوَارِبُ۔

جَوْرٌ: جائز ہونا۔ بڑھ جانا۔ طے کرنا۔ درست ہونا۔ مان لینا۔ پار کرنا۔

جَوْرٌ: اخروٹ۔ اخروٹ کی لکڑی۔ واحد جَوْرَةٌ۔

جَوْرٌ: بڑھ جانا۔ طے کرنا۔ جائز ہونا۔ نافذ ہونا۔ ممکن ہونا۔

جَوْرَاءٌ: ایک ستارے کا نام۔

جَوْرَةٌ: اخروٹ۔ چھوٹے انگوروں کی ایک قسم۔ حقہ۔ تمباکو نوشی کا پائپ۔ جمع جَوْرٌ۔

جَوْرٌ الْأَرْقَمُ: موگ بھلی۔

جَوْرٌ جُنْدُمٌ: سنگھاڑا۔ شکر قندی۔

جَوْرٌ صَنْوَبَرٌ: چلغوزہ۔

جَوْرٌ الطَّيِّبُ: جاتل۔

جَوْزُ الْمَائِلِ: دھتورہ۔

جَوْزُ الْهِنْدِ: ناریل۔

جَوْزِيٌّ: اخروٹ نما۔

جَوْزِيٌّ: گاڑی بان۔

جَوْسٌ: کسی بات کی ٹوہ لگانا۔ گھس جانا۔ گھورتا۔ گھومنا۔ سراغ لگانا۔ آمدورفت رکھنا۔ چھان بین کرنا۔

جَوْشٌ: ساری رات چلنا۔ بلند ہونا۔ پھیلنا۔ سینہ۔ درمیانی حصہ۔

جَوْشٌ: سینہ۔

جَوْشَنٌ: سینہ۔ زرہ۔ جمع جَوَاشِنُ۔

جَوْظٌ: اکڑ کر چلنا۔ بے قرار ہونا۔

جَوْعٌ: بھوک لگنا۔ بھوکا ہونا۔

جَوْعٌ: بھوک۔ فاقہ۔ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ جَوْعٌ تَقْوَمُ عَنْ فِرَاشِكَ فَلَا تَبْلُغُ الْمَسْجِدَ۔ جب مدینے میں قحط پڑے گا تو بھوک کے مارے تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جاسکے گا۔

جَوْفٌ: کھوکھلا ہونا۔ بیچ میں سے خالی ہونا۔ پیٹ۔ باطن۔ نرم ہموار زمین۔

جَوْقٌ: موٹی گردن والا ہونا۔ ٹیڑھے منہ والا ہونا۔ لوگوں کو جمع کرنا۔ جمع۔ لوگوں کی بھیڑ۔

جَوْلٌ: گھومنا۔ پھرنا۔ پسند کرنا۔ بلند ہونا۔ ابھرنا۔ چکر لگانا۔ چھانٹنا۔ منتخب کرنا۔ دھتکارنا۔

جَوْلٌ: کنوئیں کا کنارہ۔ وادی کا کنارہ۔ زمین پر اڑنے والی مٹی۔ جانوروں کا بڑا گلہ۔ کھیت۔

میدان۔ جمع أَجْوَالٌ۔

جَوْلَانٌ: گولان۔ شام کے ایک پہاری سلسلے کا نام۔

جَوْلَةٌ: گشت۔ دورہ۔ سفر۔ پھیرا۔ چکر۔ جمع جَوْلَاتٌ۔

جَوْنٌ: کالا ہونا۔ سفید ہونا۔ دن۔ جَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ

جَوْنِيَّةٌ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے۔

جَوْنَاءٌ: سورج۔ ہانڈی۔ کالی اونٹنی۔

جَوْنَةٌ: سیاہی۔ جھاڑی۔ عطر رکھنے کی کچی۔

جَوَّةٌ: سامنا کرنا۔

جَوِيُّ: پیٹ کی بیماری۔ سینے کی تکلیف۔ تنگ دل ہونا۔ طویل بیماری میں مبتلا ہونا۔ عشق و محبت کی سوزش۔

جَوِيُّ: فضائی۔ ہوئی۔ خلائی۔

جَوْبُورِيَّةٌ: جاریہ کی تصغیر ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک کا نام۔

جَهَادٌ: ہم دار زمین۔ جنگ۔ سخت زمین۔ اِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِأَرْضِ جَهَادٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہم دار زمین پر اترے۔

جَهَادٌ: ایک دوسرے کے مقابل کوشش کرنا۔ اللہ کی رضا اور اس کا دین پھیلانے کے لیے کافروں سے لڑنا۔ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْئَةٌ۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی (مکہ دارالاسلام ہو گیا) صرف جہاد اور اس کی نیت باقی ہے۔ (یہ قیامت تک باقی رہیں گے)

جَهَادِيٌّ: جنگ سے متعلق۔ لڑائی سے متعلق۔

جَهَارَةٌ: آواز کی بلندی۔ حسن منظر۔

جَهَاؤٌ: ضرورت کا سامان۔ جہیز۔ دولہن کا سامان۔ سفر کا سامان۔ مردے کا کفن وغیرہ۔

جَهَامٌ: پانی سے خالی بادل۔ جَاءَ نِيٌّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِجَهَامٍ۔ اس معاملے میں مجھے کوئی مفید چیز نہیں ملی۔

جَهَبٌ: بھاری اور بد نما چہرہ۔

جَهْبِدٌ: عقل مند آدمی۔ بات کو پرکھنے والا۔

جَهْبَادٌ: ماہر نقاد۔ کھرے کھوٹے کو پرکھنے والا۔ جمع جَهَابِدَةٌ۔

جَهْبَهَةٌ: لاکارنا۔ ڈاشنا۔ روکنا۔ باز رہنا۔ آوازیں لگانا۔ اَنْ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ عَدَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ فَانْتَزَعَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَجَهْبَهَهُ الرَّجُلُ۔ بھیڑیا اسلم قبیلے کے ایک شخص کی

بکریوں میں سے ایک بکری نکال کر لے چلا تو اس شخص نے بھیڑیے کو لاکارا۔

جُهْدٌ: طاقت۔ قدرت۔ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ۔ اور جن کو محنت و مزدوری کے سوا کچھ سیر نہیں۔

جُهْدٌ: کوشش کرنا۔ طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔ وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ۔ اور ان

کافروں نے اللہ کی بہت پختہ قسمیں کھائی تھیں۔

جَهْدَانٌ: تھکا ماندہ۔ مشقت میں پڑا ہوا۔

جَهْرًا: چند ہیاجانا۔ چکا چوندا ہونا۔

جَهْرٌ: پکارنا۔ ظاہر ہونا۔ کھول دینا۔ بڑا سمجھنا۔ جَهْرَتِ الْعَيْشِ: تونے لشکر کو بہت سمجھا۔

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ۔ قرآن کو پکار کر پڑھنے والا علانیہ خیرات کرنے والے کی مانند ہے۔ (دکھاوے کی نیت نہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں) وَأَنْتَجَهْرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر تو پکار کر بات کہے تو بے شک وہ تو چھپی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔

جَهْرَةٌ: ظاہری طور پر۔ علانیہ۔ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔

جَهْرِيٌّ: عام۔ کھلا ہوا۔ ظاہر۔ علانیہ۔

جَهْرِيٌّ: وہ نماز جس میں آواز کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے۔

جَهْرٌ: زخمی کا کام تمام کر دینا۔ جلدی سے قتل کر دینا۔ أَنَّهُ أَمَى عَلِيَّ أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيحٌ فَأَجَهَرَ عَلَيْهِ (حضرت عبداللہ بن مسعود) ابوجہل کے پاس آئے تو وہ زخمی ہو کر پڑا ہوا تھا، انھوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔

جَهْشٌ: رونے کے لیے تیار ہونا۔ رونے کے قریب ہونا۔ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ بِالْحَدِيثِيَّةِ فَاصَابَ أَصْحَابَهُ عَطَشٌ۔ قَالُوا فَجَهَشْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کو

پاس نے آگھیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رونی صورت بنا کر آپ کے پاس بھاگے۔

جَهْشَةٌ: لوگوں کا ایک گروہ۔ رونے کے قریب ہوتے وقت کا آنسو۔

جَهْضٌ: غالب ہونا۔ جلدی سے ہٹا دینا۔ دور کرنا۔ الگ کرنا۔ روکنا۔ فَأَجَهَضُوهُمْ عَنْ

أَنْقَالِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ۔ احد کے دن انھوں نے ان کو ان کے سامان سے ہٹا دیا۔

جَهْلٌ: بے علمی۔ نادانی۔ زور سے ابال آنا۔ جاہل ہونا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ

بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انھوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ

نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں (مذاق کر کے) جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔

جَهَنَّمُ: ترش روئی سے پیش آنا۔ بدکلامی کرنا۔ ناک بھوں چڑھانا۔

جَهَنُّ: ترش روئی۔

جَهَنَّمُ: دوزخ۔

جَهَنَّمِيُّ: مہلک۔ دھماکہ خیز۔ شیطانی۔ دوزخی۔

جَهْوُشٌ: تیز رفتار۔

جَهْوَمٌ: عاجز۔ لاچار۔

جَهِيْرٌ: خوش نما چہرہ۔ روشن چہرہ۔

جَهِيْزٌ: تیز آواز۔ پھرتیلا گھوڑا۔ فَرَسٌ جَهِيْزٌ الشَّدِيدُ۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

جَهِيْنَةٌ: فِضَاعَةٌ کا ایک قبیلہ۔

جِيٌّ: کٹے اور مدینے کے درمیان ایک وادی۔

جِيءٌ: آنا۔ جانا۔ لانا۔ بارش ہونا۔ واقع ہونا۔ مقصد میں کام یاب ہونا۔

جِيَاءٌ: ہانڈی کا سرپوش۔

جِيْنَةٌ: آنے کی ہیئت۔ آنے کی نوعیت۔

جِيْنَةٌ: زخم کا مواد۔ کچ لہو۔ پوند۔

جِيَادٌ: کتے میں ایک مقام کا نام۔

جِيَارٌ: چونا فروش۔

جِيَاظٌ: اکڑ کر چلنے والا۔

جِيَافٌ: کفن چور۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جِيَافٌ۔ کفن چور جنت میں نہیں جائے گا۔

جِيْبٌ: گریبان لگانا۔ دل۔ سینہ۔ جب۔ وَ لِيَضْرِبَنَّ بِخُمْرٍ هُنَّ عَلٰى جِيُوْبِهِنَّ۔ اور اپنے

دوپٹے اپنے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔

جِيَّةٌ: وہ پانی جو نشیب میں جمع ہو جائے۔

جِيْحَانٌ: بلخ کے قریب ایک نہر۔

جِيْحُونٌ: بلخ کے قریب ایک نہر۔

جَبْدُ: گردن۔ گردن کا اگلا حصہ۔ چھوٹا کوٹ۔

جَبْدُ: عمدہ۔ بہتر۔ خواش گوار۔

جَبْدُ: لمبی گردن والا ہونا۔

جَبْرًا: پستہ قدر۔ موٹا۔

جَبْرٌ: بغیر بھاجوٹا۔ گج۔

جَبْرٌ: ہال۔

جَبْرٌ: ہال۔

جَبْرَةٌ: پڑوس۔

جَبْرَةٌ: ایک شہر کا نام، جو مصر میں دریائے نیل پر واقع ہے۔

جَبِشٌ: ایک لمبی گھاس۔

جَبِشٌ: اہل کر بہنا۔ زور سے پہنا۔ جوش مارنا۔ سمندر میں طوفان آنا۔ گھوڑے کا بد کنا۔ جنگ کا

شدت اختیار کرنا۔ جی متلانا۔ قے آنا۔ طیش میں آنا۔

جَبِشَانٌ: جوش۔ غصہ۔ طیش۔ اہال۔ اضطراب۔ يَا عَلِي لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَبِشِ۔ اے علی

ذات الجبش پر نماز مت پڑھ۔

جَبِصٌ: مائل ہونا۔ منحرف ہونا۔ مڑ جانا۔ اکڑ کر چلنا۔ اترا کر چلنا۔ بچنا۔ الگ رہنا۔ لڑائی سے

بھاگنا۔

جَبِصٌ: مائل ہونا۔ منحرف ہونا۔ مڑ جانا۔ اکڑ کر چلنا۔ اترا کر چلنا۔ بچنا۔ الگ رہنا۔ لڑائی سے

بھاگنا۔

جَبِظَانٌ: اکڑ کر چلنا۔

جَبَعْمٌ: بھوکا۔

جَبِيفٌ: بدبودار ہونا۔ مڑ جانا۔ اَتَكَلِمُهُ نَاسًا قَدْ جَبِيفُوا۔ کیا آپ ایسے لوگوں سے بات کرتے

ہیں جو مر کر مڑ گئے۔

جَبِيفَةٌ: سڑی ہوئی لاش۔ لَا أَعْرِفُنَّ أَحَدَكُمْ جَبِيفَةً لَيْلٍ فَطُرِبَ نَهَارٍ۔ میں تم میں سے کسی کو

اس شخص کی طرح نہ پاؤں جو رات بھر بے جاں لاش کی طرح محو خواب رہتا ہو اور دن بھر دنیا

کمانے میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ (اور آخرت کی اسے کوئی فکر نہ ہو)۔
 جَبِيلٌ: قوم۔ نسل۔ قبیلہ۔ خاندان۔ طبقہ۔ جماعت۔ ایک صدی۔ جمع أَجْبِيَالٌ۔
 جَبِيلٌ: سخت دل۔ نافرمان۔
 جَبِيْلَاهُنْكَ: سیاہ ترید کے بیج۔ ترید کے چھلکے۔
 جَيْمٌ: جیم لکھنا۔

(ح)

حَابٌ: نشانے کے قریب پہنچنے والی شے۔
 حَابَةٌ: محبت رکھنا۔ دوستی رکھنا۔
 حَابُولٌ: وہ رسی جس کے ذریعے کھجور کے درخت پر چڑھتے ہیں۔ جمع حَوَابِيلٌ۔
 حَاتِمٌ: ایک مشہور سخی آدمی کا نام۔ قاضی۔ فیصلہ کرنے والا۔
 حَاتِنٌ: برابر۔ یکساں۔ ایک جیسا۔
 حَاتِيٌّ: بہت پینے والا۔
 حَاجٌ: حج کے ارکان ادا کرنے والا۔ حاجی۔ جمع حُجَّاجٌ۔
 حَاجِبٌ: دربان۔ پردہ۔ نقاب۔ آڑ۔ جمع حَوَاجِبٌ۔
 حَاجَةٌ: جو عورت حج کر کے آئی ہو۔ جمع حَوَاجٌّ۔
 حَاجِرٌ: ایسا نشیب جس میں پانی رک جائے۔ جمع حُجْرَانٌ۔
 حَاجِرٌ: رکاوٹ۔ آڑ۔ پارٹیشن۔ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنے والا۔ تلوار کی دھار۔
 حَادِثٌ: نیا۔ قدیم کی ضد۔ نئی چیز۔ واقعہ۔ جمع حَوَادِثٌ۔
 حَادِثَةٌ: واقعہ۔ سانحہ۔ مصیبت۔ واردات۔ جمع حَوَادِثٌ۔
 حَادِرٌ: بھرے ہوئے جسم کا۔ موٹا۔ سخت۔ مضبوط۔
 حَادُوْرٌ: ڈھلوان جگہ۔ جمع حَوَادِرٌ۔
 حَادِيٌّ: گا کر اونٹ چلانے والا۔ جمع حُدَاةٌ۔
 حَادِرٌ: چوکننا۔ محتاط۔ ہوشیار۔

حَاذِقٌ: ماہر۔ ہوش یار۔ باکمال۔ جمع حُدَّ اَتَق۔

حَاذُورَةٌ: بہت محتاط۔ بہت چوکنا۔ رَجُلٌ حَاذُورَةٌ۔ بہت محتاط آدمی۔

حَاذِيٌّ: جو تاپہنے والا۔

حَارِجٌ: گنہگار۔

حَارِزٌ: مضبوط جگہ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا فِيْ حِرْزِ حَارِزٍ۔ اے اللہ ہمیں محفوظ اور مضبوط پناہ میں کر

دے۔

حَارِصَةٌ: وہ زخم جس سے کھال چر جائے۔

حَارٌ: گرم۔ وَلِ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا۔ جو شخص حکومت کے مزے لوٹے، وہی اس کی سختی بھی

اٹھائے۔

حَاشَا: ایک کانٹے دار درخت۔

حَبٌّ: محبوب۔ عاشق۔ دوست۔ جمع احباب۔

حَبِيًّا: محبت کرنا۔ دوستی کرنا۔ پسند کرنا۔ تعلق۔ میلان، هُوَ حَبِيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ وہ (احد) ایک

پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اِلَّا اِنِّيْ، اُحِبُّ اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهُ (میرے پاس کوئی نیکی نہیں) سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے

محبت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (قیامت کے روز) آدمی

اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے۔ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ

النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا) جب تک کہ وہ اپنے باپ،

بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔

حِبَاءٌ: عطیہ۔ ہدیہ تکریم۔ عورت کا مہر۔ جمع اَحْبِيَّةٌ۔ الْعَقْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللّٰهِ وَالْاَدَبُ كُلْفَةٌ۔

عقل اللہ کا عطیہ ہے، البتہ ادب تکلیف اٹھانے سے ملتا ہے۔

حَبَا: زمین سے قریب گھٹا بادل۔

حِبَابٌ: دوستی۔

حِبَابٌ: دوستی۔ تعلق۔ سانپ۔

حِبَابٌ: شبنم۔ پانی کا بلبلہ۔

حُبَابِیْرُ: کوتاہ قد۔ جمع حُبَابِیْرُ۔

حُبَابِجْبٌ: جگنو۔ رات کو چمکنے والا کیزا۔

حُبَّارٌ: روشنائی فروش۔

حُبَّاسَةٌ: پانی جمع کرنے کی حوض نما جگہ۔ جمع حُبَّائِیْسُ۔

حُبَّاشَةٌ: جمع کی ہوئی چیزیں۔ مختلف نسلوں کے لوگ۔

حُبَّاصٌ: کم زوری۔

حُبَّاطٌ: ناموافق غذا کھانے یا زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد ہونا۔

حُبَّاقٌ: ریح خارج کرنا۔ مارنا۔ سامان کو مضبوطی سے باندھنا۔

حُبَّالٌ: رسی بنانے والا۔ رسیاں بیچنے والا۔

حُبَّالَةٌ: پھندا۔ شکاری کا جال۔ بوجھ۔ جمع حُبَّائِلٌ۔

حَبَبٌ: بلبلہ۔ لہر۔ ہموار لگے ہوئے دانت۔ خوب صورت دانت۔

حَبَبٌ: دانہ پڑتا۔ حَبَبُ الزَّرْعِ۔ وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَبَ الْاِيْمَانِ۔ لیکن اللہ نے ایمان

کو تمہارا محبوب بنا دیا۔

حَبَبٌ: دانہ۔ بیج۔ پھنسی۔

حُبَّةٌ: انگور کا دانہ۔ جمع حُبَّاءُ۔

حُبَّةُ الْحُلُوَّةِ: تخم بادیاں۔

حُبَّةُ السُّوْدَاءِ: کلونجی۔ عَلَیْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَّةِ السُّوْدَاءِ۔ تم اس کالے دانے (کلونجی) کو

لازم کر لو (یہ موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے)۔

حُبَّةُ الْعَيْنِ: آنکھ کی پتلی۔

حُبَّةُ الْغَمَامِ: اولہ۔

حُبَّةُ الْقَرِّ: اولہ۔

حَبَّجٌ: خوب کھا کر موٹا ہونا۔ بد ہضمی سے پیٹ پھول جانا۔

حَبَّذًا: اچھا ہے۔ بہت خوب۔ کلمہ تعریف ہے۔

حَبْرٌ: خوش کرنا۔ آراستہ کرنا۔ خوش نما بنانا۔ عمدہ بنانا۔ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَسْمَعُ لِقِرَاءَتِي

لَحَبْرُ تَهَا لَكَ تَحْبِيرًا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میری قرأت سن رہے ہو تو میں اس کو خوب عمدگی سے پڑھتا۔

حَبْرٌ: خوش ہونا۔ زرخیز ہونا۔

حَبْرٌ: پوپ۔ عالم۔ یہودیوں کا عالم۔ روشنائی۔ سیاہی۔

حَبْرٌ: اچھا کرنا۔ رنگین کرنا۔ خوش کرنا۔

حَبْرَةٌ: خوش کرنا۔ اچھا کرنا۔

حَبْرَةٌ: یعنی دھاری دار چادر۔ ایک ریشمی چادر۔

حَبْرَةٌ: یعنی دھاری دار چادر۔ ایک ریشمی چادر۔

حَبْسٌ: روکنا۔ قید کرنا۔ وقف کرنا۔ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى كَذَا۔ خود کو کسی کام کے لیے وقف کرنا۔

حُبْسَةٌ: زبان کا قفل۔ گفت گو میں رکاوٹ۔

حَبْسٌ: جمع کرنا۔ بھراؤ کرنا۔ کپڑے میں روئی بھرنا۔ بکھا کرنا۔

حَبْسٌ: حبشی قوم۔ حبشہ کے رہنے والے۔ سودان کی ایک نسل۔ واحد حَبْشِيٌّ۔ تَوَفَّى رَجُلٌ

صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ۔ حبش کارہنے والا ایک نیک آدمی وفات پا گیا۔

حَبْسَةٌ: جمع کرنا۔ بھراؤ کرنا۔ کپڑے میں روئی بھرنا۔ یک جا کرنا۔

حَبْطٌ: تانت کا زور کی حرکت سے آواز دینا۔ کم ہونا۔ تیر کا نشانے پر جانا۔ باطل ہو جانا۔ پامال

ہونا۔ بخیل ہونا۔ کنوئیں کا پانی کم ہونا۔ تلف کرنا۔ زندگی کی رقم۔ مَا بِهِ حَبْطٌ وَلَا

نَبْطٌ۔ اس میں کوئی حس و حرکت نہیں۔

حَبْطٌ: باطل ہونا۔ رایگاں جانا۔ ضائع ہونا۔ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبْطًا عَمَلُهُ۔ جس نے

عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔

اور جس نے ایمان سے انکار کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔

حَبْطٌ: زیادہ کھانے سے جانور کا پیٹ پھول جانا۔ زیادہ کھانے سے جانور کے پیٹ میں درد ہونا۔

إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَفْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلْمُ۔ ربیع جو چارہ اگاتی ہے اس میں سے بعض

چارہ پیٹ پھلا کر جانور کو مار ڈالتا ہے یا مار ڈالنے کے قریب کر دیتا ہے۔

حَبِيٌّ: کم عقل۔ تنگ نظر مومنٹ حَبَقَةٌ۔

حَبِئْتُ: بے کار آدمی۔ بے فیض آدمی۔ مؤنث حَبِئَةٌ۔

حَبِئْتُ: تیز خوش بودار نبات۔ ریحان۔ پودینہ۔

حَبِئْتُ: ریح خارج کرتا۔ مارنا۔ سامان کو مضبوطی سے باندھنا۔

حَبِلٌ: عالم۔ عقل مند۔ مکار۔

حَبِلٌ: غصے ہونا۔ حاملہ ہونا۔

حَبِلٌ: رسی۔ رسی سے باندھنا۔ جال لگا کر شکار کرنا۔ پھندا لگا کر پکڑنا۔ جال بچھانا۔ وَهُوَ حَبِلٌ

اللَّهِ الْمَتِينُ۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ عَلَيكُمْ بِحَبْلِ اللَّهِ۔ تم اللہ کی رسی آٹھا لے

رہو۔ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی

سے تھام لو اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرو۔

حَبْلِي: حاملہ۔

حَبْلَةٌ: انگور کی جڑ۔ انگور کی شاخ۔

حَبْلَةٌ: سر کا پھل۔ بول کا پھل۔ لوسے وغیرہ جیسی سبزی۔

حَبْنٌ: پھوڑا۔ جمع حَبُونٌ۔

حَبْنٌ: پھوڑوں کی بیماری۔ پیٹ کی ایک بیماری۔ پیٹ کی سوجن۔ استسقا۔

حَبْنٌ: پھوڑوں کی بیماری۔ پیٹ کی ایک بیماری۔ پیٹ کی سوجن۔ استسقا۔

حَبْنَاءُ: انڈے ندینے والی کبوتری جمع حَبْنٌ۔

حَبْنَةٌ: پھوڑا۔ بندر۔

حَبْنَطِي: غصے میں بھر ہوا۔ پستہ قد۔ بڑے پیٹ والا۔

حَبْوٌ: سرین کے بل چلنا۔ ہاتھ پاؤں کے بل چلنا۔

حَبْوٌ: خوش کرنا۔ اچھا کرنا۔ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ۔ تم اور تمہاری

بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تمہاری خاطر مدارت ہوگی۔

حَبْوٌ: باطل ہونا۔ ضائع ہونا۔ رائیگاں جانا۔

حَبْوٌ: آفت۔

حَبِيٌّ: گہرا تہ بہ تہ ابر جو پہاڑ کی طرح چوڑا ہو۔

حَبِيبٌ: دوست۔ پیارا۔ جمع اَحْبَاءُ۔ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ۔ دو کلمے اللہ کو پسند ہیں۔ (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اور سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)
 حَبِيبٌ: نقش و نگار والا ملائم کپڑا۔ کڑھی ہوئی خوش نما چادر۔ رنگ برنگ بادل۔
 حَبِيسٌ: قیدی۔ جہاد کے لیے وقف کیا ہوا گھوڑا۔ گوشتہ نشین۔ راہب۔ جمع حَبِيسٌ۔
 حَبِيلٌ: شیر۔ بہادر۔

حَتٌّ: درخت کے پتے گرنا۔ چھال گرنا۔ پھیلنا۔ کھر چنا۔ درخت کا سوکھ جانا۔ بال جھڑنا۔ تیز رفتار۔

حَتَّى: تک۔ تاکہ۔ یہاں تک کہ۔ نیز۔ بھی حرف جر ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ۔ یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا۔ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے۔ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَ نَفْسَهُ حَتَّى يُوَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا۔ اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔

حَتَاتٌ: برادہ۔ چورہ۔ ریزہ۔ بچی کچی چیز۔

حَتَامَةٌ: روٹی کے ریزے جو دسترخوان پر گریں۔ دسترخوان کا بچا ہوا کھانا۔

حَتَّةٌ: چھال۔ چھلکا۔ ریزہ۔ گلزا۔

حَتَحَتْ: پتے چھاڑنا۔ چورا کرنا۔

حَتَدٌ: خالص ہونا۔ عمدہ ہونا۔

حَتْفٌ: موت۔ ہلاکت۔ مَنْ مَاتَ حَتْفًا أَنْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں لڑنے بغیر اپنی موت کے مرجائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ملے گا۔ (کیوں کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل چکا تھا۔)

حَتْفٌ: شور۔ بے کی تلچٹ۔ دیکھی میں بچے ہوئے گوشت کے ریزے۔

حَتَكٌ: چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر۔ تیز چلنا۔ متوجہ ہونا۔ چمان بین کرنا۔

حَتْمًا: فیملہ کرنا۔ حکم لگانا۔ مضبوط کرنا۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آپ کے رب کا

فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا۔

حَتْنٌ: سخت ہونا۔ برابر۔ ہم پلہ۔ جمع اَحْتَانٌ۔

حَتْنٌ: برابر والا۔ ہم سر۔ جوڑ۔

حَتْنِي: برابر۔ ایک جیسے۔

حَتْوًا: تیز دوڑنا۔ بخیر کرنا۔ پختہ سلائی کرنا۔

حَتُوْتُ: کھجور کا وہ درخت جس کی نیم پختہ (گدر) کھجوریں گر گئی ہوں۔

حَتُوْدٌ: خشک نہ ہونے والا چشمہ۔ جمع حَتْدٌ۔

حَتُوْدٌ: قیام کرنا۔ ٹھہرنا۔

حَتْنِي: ایک قسم کا ستو جو کھجور جیسے درخت کے پھلوں کا بنتا ہے۔ کھجور کے چھلکے، کھجور کے بیج ہوئے

ریزے۔

حَتْنِي: سینا۔ مضبوط کرنا۔ بنا۔

حَتْنِي: ہنکلی باندھ کر دیکھنا۔ گھور کر دیکھنا۔ غور سے دیکھنا۔ پختہ کرنا۔ دیوار کو سیدھا چننا۔ مضبوط گرہ

لگانا۔

حُتٌ: ہر کئی ہوئی چیز۔ بھس۔ روکھی روٹی۔ موٹا پسا ہوا ستو۔

حَتٌ: ترغیب دینا۔ ابھارنا۔ برا بیچنے کرنا۔ امادہ کرنا۔ اکسانا۔

حَفَاتٌ: جلدی۔ جلد آنے والی ہلکی نیند۔ چھپکی۔

حَفَاةٌ: آنکھ کی گرمی۔ آنکھ کی کھٹک۔

حَفَاةٌ: تلچھٹ۔ کوڑا کرکٹ۔

حَفَاةٌ: ہر چیز کا خراب بچا ہوا حصہ۔ بھوسا۔ تلچھٹ۔ ادنیٰ درجے کے لوگ۔ لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ

إِلَّا عَلَى حَفَاةٍ مِنَ النَّاسِ۔ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو آخر میں کوڑے کرکٹ کی

طرح رہ جائیں گے (برے لوگ)

حَفَاتٌ: مسلسل حرکت کرنا۔ حَيَّةٌ حَفَاتٌ۔ مسلسل حرکت کرنے والا سانپ۔

حَفَاةٌ: برا بیچنے کرنا۔ امادہ کرنا۔ اکسانا۔ ترغیب دینا۔ ابھارنا۔

حَفُوْتُ: جلد باز۔ بخیل۔ تیزی۔ اکساہٹ۔ اشتعال۔

حَثْرًا: موٹا ہونا۔ دانے دار ہونا۔ جلد کا پھنسیوں والا ہونا۔ گاڑھا ہونا۔

حُثْرَبٌ: گدلا پانی۔ کھرچن۔

حَثْرَةٌ: انگور کا دانہ۔ آنکھ کا بال۔ آنکھ کی سوزش۔

حَثْرَفَةٌ: آنکھ کی سرخی۔ آنکھ کی کھٹک۔

حُثْفَرٌ: تیل کی گاد۔ تلچھٹ۔ جمع حَثْفِرٌ۔

حَثْلٌ: دبلا۔ کم زور۔

حَثْلٌ: موٹے پیٹ والا ہونا۔ بد حال ہونا۔

حَثْلٌ: بد حالی۔ دودھ پلانے کی خرابی۔

حِثْلَةٌ: حوض کا تھوڑا پانی۔

حَنْمَةٌ: ٹیلہ۔ اونچا راستہ۔ ناک کا بانسہ۔ جمع حِثَامٌ۔

حَنْمَةٌ: بند (ڈیم) میں پانی گرنے کی جگہ۔

حَنْوٌ: کسی پر خاک ڈالنا۔ کسی پر خاک گرنا۔ مارنا۔ پھینکنا۔ کسی کو تھوڑی چیز دینا۔

حَنْوَاءٌ: بہت مٹی والی۔ اَرْضٌ حَنْوَاءٌ۔ بہت مٹی والی زمین۔

حَنْوَةٌ: مٹی سے بھری ہوئی مٹی۔

حَنْوْتُ: جلد باز۔ تیز رفتار۔ تیز گام۔

حَنْوٌ: کسی پر خاک ڈالنا۔ کسی پر خاک گرنا۔ مارنا۔ پھینکنا۔ کسی کو تھوڑی چیز دینا۔ كَمَا كَانَ يَحْنِي

عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَنِيَّاتٍ۔ آپ غسل میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے تھے۔

حَنِيفٌ: جلد۔ تیز۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَنِيفًا۔ وہ رات کو دن سے چھپاتا ہے جو اس

کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے۔

حَنِيفٌ: خراب غذا سے پلا ہوا بچہ۔ کمزور بچہ۔ دبلا۔

حَجٌّ: کسی کے پاس آنا۔ کسی جگہ کا قصد کرنا۔ جانا۔ عبادت کے لیے مسجد حرام میں جانا۔ وَلِلَّهِ عَلَى

النَّاسِ حِجٌّ مِنَ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج

فرض ہے جو وہاں پہنچے کی استطاعت رکھتا ہو۔ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ

فَحُجُّوا۔ اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو تم حج کرو۔

- حَجَاب: پناہ گاہ۔ پردہ۔ ٹیلہ۔ کنارہ۔
- حِجَاب: پردہ۔ رکاوٹ۔ آڑ۔ پارٹیشن کی دیوار۔ جمع حُجُب۔ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ۔ یہاں تک کہ (آفتاب) غروب ہو گیا۔
- حِجَابَةٌ: دربانی۔ چوکیداری۔
- حِجَابٌ: کنارہ۔ گوشہ۔ ابرو کی ہڈی۔
- حِجَابٌ: رکاوٹ۔ کمرے کی دیوار۔
- حِجَابٌ: پتھر کا تاجر۔ سنگ تراش۔
- حِجَابٌ: مدینے میں ایک مقام کا نام۔
- حِجَابٌ: روک۔ آڑ۔ فاصل۔ پٹی۔ کربند۔
- حِجَابَةٌ: روکنا۔ منع کرنا۔ حائل ہونا۔ محفوظ کرنا۔
- حِجَابٌ: بدہضمی۔ خراب غذا کی وجہ سے اسہال آنا۔ سخت مروڑ۔
- حِجَامٌ: جانور کے منہ پر لگائی جانے والی جالی یا چھینکا۔ وہ چیز جو مست اونٹ کے منہ پر باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی کو کانٹے نہیں۔
- حِجَامٌ: پچھنے لگانے والا۔ حجامت بنانے والا۔
- حِجَامَةٌ: پچھنے لگانے کا پیشہ۔
- حِجْبٌ: رکاوٹ۔
- حِجْبٌ: ڈھانپنا۔ روکنا۔ آڑ کرنا۔ محروم کرنا۔ چھپانا۔ غائب ہو جانا۔
- حِجَّةٌ: ایک بار حج کرنا۔ کان کی لو۔ ہالی۔ جمع حِجَجٌ۔ عَلِيٌّ أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَانِي حِجَجٍ۔ اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو۔
- حِجَّةٌ: ایک بار حج کرنا۔ کان کی لو۔ ہالی۔ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔
- حِجَّةٌ: دلیل۔ برہان۔ ثبوت۔ جمع حِجَجٌ و حِجَاجٌ۔
- حِجْرٌ: روکنا۔ منع کرنا۔ پابندی لگانا۔ گوشہ۔ گود۔ حفاظت۔ وَرَبَابُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ۔ اور جن بیویوں سے تم نے صحبت کی

ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہوں۔

حَجْرٌ: عقل۔ وہ دیوار جو کعبہ کے مغربی جانب گول بنی ہوئی ہے۔ حطیم۔ قوم شموذ کا ملک جو شام اور مدینے کے درمیان واقع تھا۔

حَجْرٌ: بہت پتھروں والا۔ پتھر ملی جگہ۔

حَجْرٌ: پتھر۔ جَعَّ أَحْجَارٌ۔ نَزَلَ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً سَوْدَتْهُ خُطَابَا بَنِي آدَمَ۔ حجر اسود جنت سے اترتا وہ سفید تھا۔ لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔

حَجْرٌ: محرومی۔ رکاوٹ۔ آنکھ کا حلقہ۔

حَجْرٌ: روکنا۔ منع کرنا۔ پابندی لگانا۔

حُجْرَةٌ: کمرہ۔ گھر کا زیریں کمرہ۔ جانوروں کا باڑہ۔ جَعَّ حُجْرٌ۔

حُجْرٌ: ازار باندھنے کی جگہ تکلیف ہونا۔

حَجْرُ الْأَسْوَدِ: سیاہ پتھر جسے حاجی لوگ طواف کے دوران بوسہ دیتے ہیں۔

حَجْرِيٌّ: پتھر والا۔ سنگلاخ۔

حَجْرًا: آنتوں کا سکرنا۔

حَجْرٌ: روکنا۔ منع کرنا۔ حائل ہونا۔ محفوظ کرنا۔

حُجْرٌ: قبضہ۔ رکاوٹ۔

حُجْرٌ: گوشتہ۔ قبیلہ جس کی پناہ لی جائے۔

حُجْرَةٌ: ازار باندھنے کی جگہ۔ کمر بند باندھنے کی جگہ۔ نَيْفٌ۔ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى

حُجْرَتِهِ۔ بعضوں کو دوزخ کی آگ کمر تک پہنچے گی۔ فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَتِهَا۔ اس

عورت نے اپنے نیفے میں سے خط نکالا۔

حَجْفٌ: چڑے کی ڈھالیں جن میں لکری اور تانت نہ ہو۔ واحد حَجْفَةٌ۔

حُجْفٌ: اسہال میں مبتلا ہونا۔

حُجْلٌ: پازیب۔ عورت کے پاؤں کا زیور۔ بیڑی۔ گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی۔ جَعَّ أَحْجَالٌ۔

حُجْلٌ: آنکھ اندر ہونا۔

حَجَلٌ: ایک پیراٹھا کر دوسرے پر چلنا۔ ایک پاؤں پر کودتے ہوئے چلنا۔ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجِلُ۔ اتنے میں ابو جندل بیڑی میں کودتے ہوئے آئے۔

حَجْمٌ: روکنا۔ باز رکھنا۔ اونچا ہونا۔ بڑھ جانا۔ چوسنا۔ سانپ کا ڈسنا۔ إِنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ كَأَنَّهُ بَعِيرٌ مَحْجُومٌ۔ حضرت عمر احد کے دن اچھے اونچے اونٹ کی طرح نکلے۔
حَجْمٌ: ساز۔ ضخامت۔ مقدار۔ جمع حُجُومٌ۔

حَجْنٌ: موڑنا۔ کھینچ لینا۔ روکنا۔ پھیرنا۔ ٹیڑھا کرنا۔ قیام کرنا۔ بخل کرنا۔ بالوں کا گھنگریالے ہونا۔
حَجْنٌ: اقامت کرنا بخل کرنا۔ يَسْلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجِنِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرا سود کو اپنی ٹیڑھے منہ کی لکری سے چھوتے تھے۔ وَجَعَلَتِ الْمَجَاجِنُ تَمْسِكُ رَجَالًا۔ (قیامت کے دن) ٹیڑھے منہ کی لکڑیاں کچھ لوگوں کو اٹکالیں گی۔

حُجْنَةٌ: ٹیڑھا پن۔ چرنے کا ٹکلا۔

حَجْوًا: ٹھہرنا۔ رکننا۔ قیام کرنا۔ بخل کرنا۔

حَجْوُنٌ: کئے کا ایک اونچا پہاڑ۔ ست۔ کابل۔

حَجِيٌّ: ہوش یاری۔ عقل۔ دانائی۔ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجْيٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ جو شخص ایسی چھت پر سو جائے جس پر روک نہ ہو (منڈیرو وغیرہ) اس کا ذمہ نہ رہا۔

حَجِيٌّ: اطراف۔ جوانب۔ کنارہ۔ کونا۔ جمع أَحْجَاءٌ۔

حَجِيْفٌ: پیٹ کے اندر سے نکلنے والی آواز۔

حَدًا: کسی کے رزق میں کمی ہونا۔ سوگ منانا۔ تلوار کو تیز کرنا۔ گھور کر دیکھنا۔ دشمنی کرنا۔ پڑوس میں ہونا۔ سرحد مقرر کرنا۔ نافرمانی کرنا۔ الْمَرْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

حَدَاءٌ: مدد کرنا۔ ظلم سے روکنا۔ التجا کرنا۔ غصے ہونا۔

حَدَاءٌ: پھیرنا۔ ہٹانا۔ قیام کرنا۔ پناہ لینا۔ حَدَّثَتِ الْمَرْأَةُ عَلِيَّ وَلَدَهَا۔ ماں اپنے بچے پر مہربان ہوئی۔

حَدَاءٌ: اونٹوں کے ہانکنے کا گیت۔ اَلْحَدَاةُ تَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا اللّٰهُ (کعب احبار نے کہا) چیل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا سب ہلاک ہونے والا ہے۔

حَدَاءٌ: اونٹوں کے ہانکنے کا گیت۔

حَدَائِدُ: لوہے کا سامان۔

حَدَاةٌ: دو نوک والی کدال۔ تیر کا پھل۔

حَدَاةٌ: نوعمری۔ نوجوانی۔ نیا پن۔ تازگی۔ ابتدا۔ اَخَذَ الْاَمْرَ بِحَدَاثَتِهِ۔ کسی معاملے کو ابتدا سے لینا۔

حَدَاةٌ: عورتوں کی ایک سواری۔ جمع حَدَائِجُ۔

حَدَاذٌ: ماتمی لباس۔ سوگ۔ ماتم۔

حَدَاذٌ: لوہار۔ لوہا فروخت کرنے والا۔ دربان۔ لوہے کا کام کرنے والا۔

حَدَاةٌ: لوہے کا پیشہ۔

حَدَالٌ: چکنا۔ ہم وار۔

حَدَامٌ: غیظ و غضب۔

حَدَبٌ: کبڑا ہونا۔ جھکا ہوا ہونا۔ بلند زمین۔ مہربان ہونا۔ کسی کی طرف مائل ہونا۔ ٹیلہ۔ وَهْمٌ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ وہ (یا جوج ماجوج) ہر بلندی سے نکلے چلے آئیں گے۔

حَدَبٌ عَلَيْهِ عَمَةٌ۔ ان کے چچان پر مہربان ہوئے۔

حَدَبَاءُ: کبڑی۔ جھکی ہوئی۔ كَانَتْ لَهَا اِبْنَةٌ حَدَبِيَاءُ (تصغیر) اس کی ایک بیٹی کبڑی تھی۔

حَدَبَاءٌ: دہلی اونٹنی۔ قحط کا سال جمع حَدَابِيْرٌ۔

حَدَبِيَّةٌ: ٹیلہ۔ اونچی زمین۔ کبڑا پن۔ پیٹھ کا بھار۔

حَدَةٌ: اکیلا ہونا۔ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلِيٍّ حِدَةً۔ میں نے ان کو ایک جدا گانہ قبر میں رکھا۔

حَدَةٌ: شدت۔ تیزی۔ درنگی۔ اَخَذَتْهُ حِدَةٌ الْغَضَبِ۔ اسے سخت غصہ آ گیا۔ هُوَ مَعْرُوفٌ

بِحِدَّةِ التَّفَكُّيرِ۔ وہ گہری سوچ میں مشہور ہے۔

حَدَتْ: نیا ہونا۔ پیش آنا۔ واقع ہونا۔ پیدا ہونا۔ ایجاد کرنا۔ احترام کرنا۔ نجاست حکمی۔ یعنی جس

سے وضو، غسل اور تیمم ختم ہو جائے۔ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا۔ شاید اس

(طلاق) کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ۔ وضو اسی

وقت واجب ہوگا جب حدث ہو جائے۔

حَدَّثُ: بسیار گو۔ قصہ گو۔

حَدَّثَانِ: شب و روز۔ لیل و نہار۔

حَدَّثَانُ: ابتدا۔ آغاز۔ لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ وَبَنَيْتُهَا۔ اگر تیری

قوم کے کفر کا زمانہ ابھی تازہ نہ گزرا ہوتا تو میں کعبے کو گرا کر از سر نو بناتا۔

حَدَّجُ: بوجھ۔ عورتوں کی سواری جیسے کجاوہ۔ ڈولی۔ جمع حَدَّوَجٌ۔

حَدَّجُ: پھینکنا۔ تیر مارنا۔ گھور کر دیکھنا۔ تَمَلَّكُنِي بَانِدْهَ كَرْدِكُنَا۔ حَدَّثِ النَّاسَ مَا حَدَّجُوكَ

بِأَبْصَارِهِمْ۔ لوگوں سے اس وقت تک بات کر (وعظ و نصیحت) جب تک وہ تیری طرف

نظر جمائے رہیں۔

حَدَّجُ: پھینکنا۔ مارنا۔ باندھنا۔ گھورنا۔

حَدَّدُ: ممنوع۔ باطل۔ لغو۔

حَدَّرُ: موٹا ہونا۔ غلیظ ہونا۔ سوچ جانا۔ اوپر سے نیچے دھکیلنا۔ إِذَا أَذْنَتْ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ

فَأَحَدُرُ۔ جب تو اذان دے تو ٹھہر ٹھہر کر دے اور جب تکبیر کہے تو جلدی جلدی کہہ۔

حَدَّرَاءُ: اونچی ڈھلوان جگہ۔ نشیبی جگہ۔

حَدَّرَجٌ: لڑھکانا۔ چکنا کرنا۔ چھوٹا۔ مَا بِالذَّارِ مِنْ حَدَّرَجٍ۔ گھر میں کوئی نہیں۔

حَدَّرَجٌ: چکنا۔

حَدَّرُوجٌ: چکنا۔

حَدَّسٌ: گمان کرنا۔ اٹکل سے چلنا۔ اندازہ کرنا۔ تخمینہ لگانا۔ پچھاڑنا۔

حَدَّقُ: گھیر لینا۔ احاطہ کرنا۔ چاروں طرف سے گھیرنا۔ أَحَدَّقِ بِهِ النَّاسُ۔ لوگوں نے آپ کو گھیر

لیا۔

حَدَّقَةُ: آنکھ کی سیاہی۔

حَدَّلُ: گردن کا درد۔

حَدَّلُ: کسی پر ظلم کرنے کے لیے مائل ہونا۔ رولر پھیرنا۔ غیر متوازن کندھوں والا ہونا۔ جھوم کر

چلنا۔ رَجُلٌ عَلِمَ فَحَدَلَ۔ وہ شخص جس نے جان بوجھ کر ظلم کیا۔
 حَذْمٌ: آگ کا خوب بھڑکنا۔ آگ میں تپانا۔ تیز گرم کرنا۔
 حَذْمَةٌ: آگ بھڑکنے کی آواز۔
 حَذْوٌ: اونٹوں کے ہانکنے کا گیت۔
 حَذْوُرٌ: ڈھلوان جگہ۔ نشیب۔
 حُدَيْبِيَّةٌ: مکے کے قریب ایک بستی۔
 حُدَيْثٌ: بہت کلام کرنے والا۔

حَدِيثٌ: نیا۔ بات۔ کلام۔ گفت گو۔ خبر۔ روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ حَدِيثٌ
 عَهْدٌ هُمْ بِكُفْرٍ۔ ان کے کفر کا زمانہ ابھی تازہ ہے۔
 حَدِيدٌ: تیز۔ لوہار۔ لوہے کی سلاخ۔ جمع حَدَائِدٌ۔

حَدِيدَةٌ: لوہے کا ٹکڑا۔

حَدِيدِيٌّ: لوہے کا۔ آہنی۔

حَدِيثٌ: کچھڑا ہوا۔

حَدِيثَةٌ: باغ۔ باغیچہ۔ پھل دار درختوں والی زمین۔ کھجوروں کا وہ باغ جس کی چار دیواری ہو۔
 جمع حَدَائِقٌ۔

حَدَيْبَةُ: انصار کا ایک قبیلہ۔

حَذٌّ: کاٹنا۔ ہلکا ہونا۔

حَدَاءٌ: موچی۔ جوتوں کا تاجر۔ جمع حَدَائِنٌ۔

حَدَاءٌ: قطع تعلق۔ پختہ ارادہ۔ وَكَلْتُ الدُّنْيَا حَدَاءً مُدْبِرَةً۔ دنیا جلد ختم ہوگئی اور دنیا والوں کو
 اس سے کچھ نہ ملا۔

حَدَاءٌ: مقابل۔ برابر۔ کسی کے برابر گر پڑنا۔ جوتی۔ چپل۔ جمع أَحْدِيَّةٌ۔

حَدَاءٌ: جوتا پہننا۔ چپل۔ مقابل۔ سامنے۔ جمع أَحْدِيَّةٌ۔ دَارِيٌّ بِحَدَائِهِ دَارِكٌ، میرا مکان
 تیرے مکان کے سامنے ہے۔ لَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بِحَدَائِهِ۔ جنازے کی نماز جوتا
 پہن کر نہ پڑھی جائے۔ يَقُومُ عَنِ الْيَمِينِ الْإِمَامَ بِحَدَائِهِ (اگر ایک مقتدی ہو تو) امام

کے دہنی طرف کھڑا ہو۔

حَدَافَةٌ: تراشہ، حذف کیا ہوا۔ بچی ہوئی چیز۔

حَدَاقٌ: ترش ہونا۔ پہچانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔ فَمَا مَرَّبِي نَصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَدَقْتُهُ۔
آدھا مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں اس میں ماہر ہو گیا۔

حَدَاقٌ: ترش ہونا۔ پہچانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔

حَدَاقَةٌ: ترش ہونا۔ پہچانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔

حَدَاقَةٌ: ترش ہونا۔ پہچانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔

حَدَاقَةٌ: کھانے کی تھوڑی مقدار۔

حَدَاقِيٌّ: تیز دھار چھری۔ ترش ترین۔ رَجُلٌ حَدَاقِيٌّ۔ دلیل بات کرنے والا۔

حَدَالٌ: سرخ رنگ کا گوند، چاول وغیرہ کی بھوسی۔

حَدَامٌ: ست۔ کابل۔

حَدَاوَةٌ: چمڑے کی کترن۔

حَدَايَةُ: مال غنیمت کا حصہ۔

حَدَّةٌ: بکڑا۔ اَعْطَاهُ حَدَّةً مِنَ الْخَمْرِ۔ اس کو گوشت کا ٹکڑا دیا۔

حَدْرٌ: پرہیز کرنا۔ چوکس ہونا۔ ڈرنا۔ بچنا۔ محتاط ہونا۔ نَزَلَ بِكَ حَدْرُكَ۔ جس چیز سے تو ڈرتا تھا
وہی تجھ پر اترا آئی۔

حَدْرٌ: بہت محتاط۔ ہوش یار۔

حَدْرٌ: پرہیز کرنا۔ بچنا۔ محتاط ہونا۔ وَحَدُّوْا حَدْرَكُمْ۔ اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔

حَدَفٌ: چھوٹی ٹٹیں۔ چھوٹی کالی بکریاں یا بھیڑیں، جن کے کان اور دم نہ ہوں۔ وہ یمن میں ہوتی
ہیں۔ وَاحْدَفٌ فِي الْاٰخِرِيْنَ۔ آخری دور کتیں پہلی دور کعتوں سے چھوٹی کر۔

حَدَفٌ: تراشنا۔ کنارے کی طرف سے کاٹنا۔ گرانا۔ حذف کرنا۔ دور کرنا۔ مختصر کرنا۔ حَدَفَ
السَّلَامُ سُنَّةً۔ سلام کو مختصر کرنا سنت ہے۔

حَدَفَاءٌ: کٹے ہوئے۔ تراشے ہوئے۔

حَدَفَارٌ: جانب۔ گوشہ۔ بلندی۔ کنارہ۔ جَمَعَ حَدَافِيْرَ۔ الْخَيْرُ بِحَدَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ۔ ساری

بھلائی جنت میں موجود ہے۔

حَدْفَةٌ: کپڑے وغیرہ کا تراشہ۔ کلڑا۔

حَدْفَرَةٌ: بھرنا۔

حُدْفُورٌ: جانب۔ گوشہ۔ بلندی۔ کنارہ۔ جمع حَدَافِيرٌ۔ أَخَذَ الشَّيْءَ بِحَدَافِيرِهِ۔ اس نے کل

کا کل لے لیا۔

حَدَقٌ: ترش ہونا۔ پھپھانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔ إِنَّهُ خَرَجَ عَلَيَّ صَعْدَةً يَتَّبِعُهَا حَدَاقِي۔

آپ ایک گدھی پر سوار ہو کر نکلے، اس کا بچہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔

حَدَقٌ: ترش ہونا۔ پھپھانا۔ کاٹنا۔ ماہر ہونا۔ سیکھنا۔ حَدَقَ الخُلُّ۔ سرکہ خوب کھتا ہو گیا۔

حَدْفَةٌ: کلڑا۔ حصہ۔ جمع حَدَقٌ۔

حَدَلٌ: جڑ۔ ازار باندھنے کی جگہ۔ گرتے کے دامن کی گولائی۔

حَدَلٌ: جھکتا۔ ازار کا کنارہ۔ گرتے کا کنارہ۔ دامن۔ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَاكُلْ مِنْ غَيْرِ

أَخِذْ فِي حَدَلِهِ شَيْئًا۔ جو شخص باغ میں داخل ہو تو (گرا پڑا پھل) کھا سکتا ہے، مگر اپنے

دامن میں کچھ نہ لے۔

حَدَلٌ: کرتے کا کنارہ۔ ازار کا کنارہ۔ کمر بند کے نیچے کا حصہ۔ نینے کے نیچے کا حصہ۔

حَدَلٌ: نینہ۔ دامن کا کنارہ۔

حَدَلَةٌ: کرتے کا کنارہ۔ ازار کا کنارہ۔ کمر بند کے نیچے کا حصہ۔ نینے کے نیچے کا حصہ۔ هُوَ فِي

حَدَلِ أُمَّهِ۔ وہ اپنی ماں کی گود میں ہے۔

